

2661 - مام#1740; سے شاد#1740; کرنے کا حکم

سوال

میرا سوال شادی کے متعلق ہے میرا ایک بہت ہی عزیز دوست اور بھائی اپنی مامی سے شادی کرنے والا ہے ، کیونکہ میرے دوست کا ماموں اپنی بیوی سے انتہائی برا سلوک روا رکھتا ہے جس کا اس کے دونوں بچوں پر بہت ہی غلط قسم کا اثر ہوا ہے اور اب وہ اپنے خاوند سے طلاق لینے کر میرے دوست سے شادی کرنا چاہتی ہے ۔
میرا دوست اس عورت اور اس کے دونوں بچوں کا تعاون کرنا چاہتا ہے اور جو کچھ انہیں سختی اور مصیبت اس کے ماموں سے پہنچی ہے وہ اس کے عوض میں اچھا سلوک کرنے کی خواہش ہے تا کہ وہ اسے بھول جائیں تو میرا سوال یہ ہے کہ :

1 - کیا شریعت اسلامیہ میں یہ شادی جائز ہے ؟

2 - میرے دوست کے ان (ماموں زاد) دو بچوں کے بارہ میں کیا واجبات اور حقوق ہوں گے ؟

میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس اشکال کا کافی و شافی جواب دیں ، اگر یہ شادی شرعی احکام سے متفق نہیں تو میں اس روک سکتا ہوں ، آپ اس سوال کا جواب جلد عنایت فرمائیں آپ کی مہربانی ہوگی ۔

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

الحمد لله :

جب کسی شخص کا ماموں اپنی بیوی کو طلاق بائن دے کر اپنے سے علیحدہ کرے تو وہ شخص اپنی مامی سے نکاح کر سکتا ہے ، کیونکہ مامی حرام کردہ عورتوں میں سے نہیں اس لیے اس سے نکاح میں کرنے کوئی حرج نہیں ۔

لیکن بھانجے کے لیے اپنی مامی سے کسی بھی قسم کا حرام تعلق قائم کرنا صحیح نہیں بلکہ ایسا کرنا حرام ہے ، ہو سکتا ہے کہ شیطان ان دونوں کو برائی کسی اچھی شکل میں دکھائے تو اس سے بچنا ضروری ہے ، اور اسی طرح بھانجے کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اسے اپنے ماموں سے متنفر کرے تا کہ وہ طلاق دے تو اس سے وہ خود شادی کر لے ۔

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

بلکہ اسے تو ان دونوں کے مابین اصلاح اور خیر و بہلائی کا کردار ادا کرنا چاہیے نہ کہ نفرت پھیلانے اور گھرانے کو تباہ کرنے والے کا ، اصل مصلحت تو یہ یہی ہے کہ اولاد اپنے والد کے ساتھ ایک ہی گھرانے اور خاندان میں رہیں لیکن جب شرعی مصلحت کا تقاضہ اس کے خلاف ہو تو پھر ان میں علیحدگی ہو سکتی ہے ۔

اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز پیدا ہو جائے اور ان دونوں کے مابین طلاق تک معاملہ جا پہنچے اور وہاں اس کے بارہ میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہ ہو تو پھر اس طلاق شدہ مامی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔

اور جب ماموں کی اولاد اس کی پرورش میں آجائیں تو ان سے اچھا اور احسن سلوک کرنا ہوگا تا کہ صلہ رحمی قائم رہے اور جب وہ ان کی پرورش میں اخلاص نیت کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم حاصل ہوگا ۔

واللہ اعلم .